

Insured _____ Owner _____
بیمہ دار _____ مالک _____

Policy Number _____ Amount Now Advanced _____
پالیسی نمبر _____ موجودہ پیشگی رقم _____

Address _____
پتہ _____

Please provide your personal bank account with IBAN 24 Alpha numeric details; (Mandatory)

Details of Bank Account:

بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات:

Account (with IBAN): _____ Title of Account: _____
اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این نمبر کے ساتھ) _____ ٹائٹل اکاؤنٹ _____

Bank Name: _____ Bank Branch: _____
بینک کا نام _____ برانچ کا نام _____

Pursuant to the terms of the above designated policy, which terms are incorporated herein as if fully set forth, the undersigned do hereby acknowledge receipt from the Company of the sum of PKR _____ and, in consideration thereof, the undersigned do(es) hereby pledge and assign (and warrant(s) the validity and sufficiency of this pledge) all rights, title and interest in said policy, together with all money that may become payable thereunder to the Company to secure repayment of the current loan and all other outstanding loans due to the Company, with interest at the rate of is % payable, on the anniversary of said policy in each year until said loan is repaid, and if interest on loan in not paid when due it shall be added to the existing loan and shall bear interest at the same rate and under the same conditions. Payments of interest and payments on account of principal shall be made at the places where premiums are payable under said policy, and only in exchange for said Company's official receipts signed by the persons authorized to sign receipts for payments of premiums under said policy.

This pledge and assignment shall operate as first lien upon said policy giving the Company priority in recovering the total indebtedness, including interest due or accrued, from any amounts payable under said policy.

If and when the total indebtedness on said policy, including interest due or accrued, equals or exceeds the amount of the cash surrender value thereof at such time, then said policy shall forthwith terminate and become void at the time and upon the conditions provided in said policy for such contingency. If the policy contains no provision for avoidance when the loan and interest shall equal or exceed the cash surrender value, then the policy shall terminate and become void after 31 days notice to that effect.

Notice in connection with this loan shall be addressed and mailed to the last intimated mailing address of the insured, and of any assignee, as recorded with the Company. Notice thus addressed shall be considered duly served even if not received by the addressee for any reason whatsoever.

متذکرہ عنوان پالیسی کی شرائط کے تحت جو شرائط اس دستاویز میں اس طرح شامل ہیں کہ وہ مکمل طور پر نافذ العمل ہیں، زبردستی کھپنی سے رقم مبلغ _____ روپے وصول کرنے کی تصدیق کرتا ہے اور کی وجہ سے، زبردستی یہ اقرار اور تفویض کرتا ہے کہ (اور اس اقرار کے موثر اور کافی ہونے کی ضمانت دیتا ہے دیتے ہیں کہ) مذکورہ پالیسی کے تمام حقوق، عنوان اور سود بمعہ اس تمام رقم کے جو اس کے تحت کھپنی کو قابل ادا ہوگی تاکہ موجودہ قرضے کی ادائیگی اور کھپنی کو قابل ادا ہوگی دیگر تمام واجب الادا قرضوں کی۔۔۔۔۔ فیصد شرح کے ساتھ سود سمیت ادائیگی کی ضمانت مل سکے جو اس پالیسی کا سال پورا ہونے پر ہر سال ہو اور اس وقت تک جب تک کہ سارا قرضہ ادا نہ اور اگر قرضے پر سود واجب الادا وقت پر ادا نہ ہو تو اس کو موجودہ قرضے میں شامل کر لیا جائے اور اس پر اتنی ہی شرح سے اور ویسی ہی شرائط کے مطابق سود لگا یا جائے۔ سود اور اصل رقم کی ادائیگی انہی مقامات پر کی جائے گی جہاں مذکورہ پالیسی کے تحت پر بیمہ قابل ادائیگی ہیں اور یہ صرف مذکورہ کھپنی کی جاری کردہ باضابطہ رسیدوں کے عوض ہوگی جن پر کھپنی کے ان باختیار افراد کے دستخط ہوں گے جن کو مذکورہ پالیسی کے تحت پر بیمہ کی رسیدوں پر دستخط کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ اقرار نامہ اور تفویض مذکورہ پالیسی پر کھپنی کے پہلے حق کے طور پر کام کرے گی اور اس سے کھپنی کو مجموعی قرضوں بشمول واجب الادا ادا جمع ہونے والے سود کی ترجیحی بنیاد پر وصولی کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اگر اور جب مذکورہ پالیسی پر مجموعی قرضے بشمول واجب الادا ادا جمع ہونے والے سود اس وقت کیش سرینڈر ویلیو کے برابر ہو جائے یا اس سے بڑھ جائے تو اس وقت مذکورہ پالیسی فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور اس صورت حال میں مذکورہ پالیسی میں درج شرائط کے مطابق اس وقت کا اہم ہو جائے گی، تب مذکورہ پالیسی اس سلسلہ میں نوٹس کے 31 یوم کے بعد ختم اور کا اہم ہو جائے گی۔

اس سلسلہ میں اس قرضہ کے ساتھ نوٹس بیدار اور تفویض کنندہ کے اس آخری ڈاک پتے پر بذریعہ ڈاک ارسال کیا جائے گا جو کھپنی کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس طرح سے بھیجا گیا نوٹس باضابطہ طور پر دیا گیا نوٹس شمار ہوگا اگرچہ یہ کسی بھی وجہ سے ڈاک پیڑھینے والے کو موصول نہ بھی ہو۔

Executed at _____ this _____ day of _____ 20 _____
طے پایا (مقام) (شہر کا نام) _____ (City) _____ تاریخ _____

Signature of Policy Owner

پالیسی اوزر کے دستخط

Witness

گواہ

Beneficiary(ies) if irrevocable

حقدار / حقداروں اگر وہ ناقابل تہنیک ہو

Witness

گواہ

Assignee, if any, hereby subordinates any claim to that of the Company

تفویض کنندہ، اگر کوئی ہو اس دستاویز میں کھپنی کی طرف سے کسی بھی کلیم کے اس کا ماتحت ہوگا۔